

PRESS RELEASE

For immediate release

May 13, 2020

Aimed COVID-19; SECP to continue adjudication function through online hearings

ISLAMABAD, May 13: The SECP, to ensure continuity of its adjudication function, while keeping the health and safety of respondents at forefront, has decided to conduct hearings through video conferencing facility where respondents can make their hearing submissions from their respective safe locations, be it their offices or homes.

This decision has been taken in response to disruptions caused by Covid-19 emergency; however, it will be a permanent facility for participating in SECP adjudications related hearings. To this effect, Commission has approved major adjustments in standard operating procedures and internal guidelines allowing service of notices and orders through email, use of video conferencing facility for conducting hearings and extension in timelines for adjudication processes. Show Cause Notices and Orders will now be served to respondents through emails. This will be in addition to traditional postal dispatches on registered address.

Moreover, for companies whose offices might closed or access to relevant records not possible, Commission has decided to relax submission timeline on request. These facilitative changes will create ease across all regulated sectors of SECP.

During this period of collective national emergency, SECP has ensured continuity of operations, providing prompt, targeted regulatory relief and preserving our enforcement and investor protection efforts. Social media and electronic means has become the preferred medium of communication at SECP.

کروانا وائرس سے بچاؤ: ایس ای سی پی تمام مقدمات کی سماعت آن لائن جاری رکھے گا

اسلام آباد (13 مئی): کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے پیدا شدہ صورت حال میں سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے کمیشن کی جانب سے جاری کئے گئے اظہار وجوہ و دیگر نوٹسز و کیسز کی سماعت آن لائن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمپنیوں، فریقین اور ملازمین کی صحت و تحفظ کے پیش نظر تمام سماعتیں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے کی جائیں گی جہاں فریقین اپنے محفوظ مقامات یعنی اپنے دفاتر یا گھر سے آن لائن ذرائع سے سماعت اور شنوائی میں شامل ہو سکیں گے۔

کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے پیدا صورت حال سے نمٹنے کے لئے کیا گیا ہے تاہم، ایس ای سی پی کی جانب سے کی جانے والے ہیرنگ میں حصہ لینے کے لئے یہ ایک مستقل سہولت ہوگی۔ اس مقصد کے لئے، کمیشن نے ایجوڈ کمیشن کے متعین طریقہ کار اور داخلی گائیڈ لائنز میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد اب اظہار وجوہ کے نوٹسز اور حکم نامے ای میل کے ذریعے جاری کئے جائیں گے جبکہ فریقین سماعت میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شامل ہو سکیں گے۔ اسے علاوہ کمیشن نے ایجوڈ کمیشن کے لئے متعین ٹائم لائن میں بھی توسیع کی اجازت دی ہے۔ مقدمے کے فریقین ان کی جانب سے فراہم کردہ ایڈریس پر عمومی ڈاک کے ذریعے شوکاژ نوٹسز اور آرڈرز بھجوانے کے علاوہ ای میل کے ذریعے بھی نوٹسز بھجوائے جائیں گے۔

اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جن کمپنیوں کے دفاتر بند ہوں یا انہیں متعلقہ ریکارڈ تک رسائی حاصل نہ ہو تو کمیشن کو آن لائن درخواست جمع کروانے کی صورت میں انہیں جواب جمع کروانے کے لئے مجوزہ ٹائم لائن میں نرمی بھی کی جائے گی۔ مذکورہ سہولتیں ایس ای سی پی کے تمام ریگولیٹڈ شعبوں کے لئے ہیں۔

اس اجتماعی قومی ہنگامی صورتحال کے دوران، ایس ای سی پی نے کاروباری سرگرمیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لئے مسلسل اقدامات کر رہا ہے اور کمپنیوں کو آسانیاں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے۔ موجودہ حالات میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک ذرائع مواصلات کے لئے ایس ای سی پی کا ترجیحی ذریعہ ہیں۔